

ROOTWORDS AL A'RAAF 85-102

فَأَوْفُوا	الْكَيْلِ	الْمِيزَانَ	تَبَيَّنُوا	تَفَعَّلُوا	تُوْعِدُونَ
و ف ي	ك ي ل	و ز ن	ب خ س	ق ع د	و ع د
توپورا کرو	ناپ	تول	کم کرو / گھٹا کر	تم بیٹھا کرو	دھمکیاں دو
فَكَفَّرَكُمْ	عَاقِبَةُ	طَائِفَةٌ	لِنَخْرِجَنَّكَ	لِنَعُوذَنَّ	كَارِهِينَ
ك ث ر	ع ق ب	ط و ف	خ ر ج	ع و د	ك ر ه
تو اس نے تم کو زیادہ کر دیا	انجام	ایک جماعت	البتہ ضرور نکال دیں گے آپ کو	تم واپس آ جاؤ	بیزار
افْتَرَيْنَا	تَوَكَّلْنَا	افْتَحَ	لِنَخَاسِرُونَ	الرَّجْفَةَ	فَأَصْبَحُوا
ف ر ي	و ك ل	ف ت ح	خ س ر	ر ج ف	ص ب ح
باندھا ہمنے	ہم بھروسہ کرتے ہیں	فیصلہ کر	بے شک نقصان اٹھاؤ گے	زلزلے نے	پھر وہ صبح کو رہ گئے
جَانِبِينَ	أَسَى	بِالْأَسَاءِ	يَضْرَعُونَ	الْمَرْءِ	لَفَتَحْنَا
ج ٹ م	أ س و	ب أ س	ض ر ع	س ر ر	ف ت ح
اوندھے پڑے ہوئے	رنج کروں۔	دکھوں	وہ عاجزی کریں	خوشی / راحت	تو البتہ ہم کھول دیتے
نَانِمُونَ	ضَحَى	أَصْبَتَاهُمْ	بَدُّنُوهُمْ	نَطَّلِعُ	أُنْبِيَاهَا
ن و م	ض ح و	ص و ب	ذ ن ب	ط ب ع	ن ب أ
سورہے ہوں	دن چڑھے	ان پر مصیبت ڈال دیں۔	ان کے گناہوں کے سبب	ہم مہر لگا دیں	کچھ حالات